

مطبیو عات

امام احمد بن حنبل اتالیف: جناب ابو زہرہ صاحب پروفیسر آف اسلامک لائیا پرنسپل یونیورسٹی
منظر۔ مترجم: مولانا عمر فاروق صاحب ایم۔ اے۔ ناشر، اسلامی پبلیشنگ لائپنی، اندرودن
لوہاری دروازہ، لاہور۔ قیمت ۹ روپے۔ صفحات ۶۰۵۔

معصر کے نامور عالم جناب ابو زہرہ کی اس فاصلہ تصنیف کا ذکر ہم گز شستہ ترجمان القرآن میں کر رکھے ہیں۔ وہ ترجمہ جناب رئیس احمد عجفری نے کیا ہے اور زیر تصریح کتاب کا ترجمہ مولانا عمر فاروق کی فکری کاوش کا نتیجہ ہے۔ کتاب کے ناشر جناب عبد الحمید نظامی صاحب نے حرفت آغاز میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ چونکہ رئیس احمد صاحب کے ترجمے میں بہت سے حصے حذف کر دیئے گئے تھے اس لیے انہوں نے کتاب کے محل ترجمہ کو شائع کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ مقصد ڈینیک ہے جو اس بات کے قابل ہیں کہ کوئی انسانی کو شتش بھی ہر لحاظ سے مکمل اور مبرأ عن الخطایہ ہیں ہو سکتی ہے کام میں کچھ نہ کچھ استقام رہ جاتے ہیں جن کو بعد میں آنے والے دوسرے لوگ دُور کرتے ہیں۔ اس لیے اصلاح کی گنجائش ہر وقت باقی رہتی ہے یہی حال اس ترجمہ کا بھی ہے مولانا عمر فاروق صاحب کی کو شتش سے یقیناً وہ بہت سی خامیاں دُور ہو گئی ہیں جو پہلے ترجمے میں موجود تھیں۔ ابتدی ترجمہ پر تعليقات و حواشی کا ذکر جس انداز سے کیا گیا ہے ہم اس سے متفق نہیں۔ مولانا عطاء اللہ جو جیانی صاحب کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ان سے کسی معاملہ میں ہبھو پوستنا ہے اور ان کی آراء سے اختلاف بھی جاسکتا ہے۔ لیکن ان کے متعلق یہ کہنا کہ تعليقات لکھنے میں ان کا مقصد فاضل مصنف کو ان کے علمی مرتبے سے گرانا تھا، یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔

کتاب کے شروع میں مولانا ابوالکلام آناؤ کا حضرت امام احمد بن حنبل کے متعلق ایک قابلِ قدر مضمون بھی بطور تعارف و رفع کر دیا گیا ہے۔ کتاب کا معیار کتابت و طباعت عمدہ ہے۔